

چرا گرگَن مو نداشت

## Kvifor flohestar ikkje har hår



✍ Basilio Gimo, David Ker


✉ Carol Liddiment

☞ Marzieh Mohammadian Haghghi

💬 persisk / nynorsk

🔊 nivå 2





پک روز، خرگوش داشت کنار رودخانه راه می‌رفت.

...

Ein dag gjekk Kanin langs elvebreidda.



گَرْگَنْ هَمْ بَرَايِ قَدَمْ زَدَنْ وَ خُورَدَنْ مِقدَارِي عَلَفِ سَبَزْ  
دِلَپَذِير آنْجَا بُود.

...


Flodhest var der òg. Ho gjekk ein tur og åt  
litt fint grønt gras.



گَرْگَنْ خَرْگُوشِی را که آنجا بود نَدِید و اِتفاقی روی پایِ  
خَرْگُوشِ ایستاد. خَرْگُوشِ شُروعِ به جِیغِ جِیغِ کَرْدَنِ سَرِ  
گَرْگَنْ گَرَد، "هِی تو گَرْگَنْ! مُتِوَّجِهِ نِیستِی کِه روی پایِ مَنِ  
ایستاده ای؟"

...

Flodhest såg seg ikke for, så ho var uheldig og trakka på foten til Kanin. Kanin skreik og byrja å ropa til Flodhest: "Hei, Flodhest! Ser du ikke at du trakkar på foten min?"



گَرْگَدَنْ أَزْ خَرْجَوْشْ عَذْرَخَواهِيْ كَرْد، "مَنْ خِيلِيْ مُتَاسِفَمْ. مَنْ توْ رَا نَدِيدَمْ. خَواهِشْ مِيْ كُنْمْ مَنْ رَا بِخَشْ! "وَلِيْ خَرْجَوْشْ گَوشْ نِمِيْ دَادْ وَ سَرِيْ گَرْگَدَنْ دَادْ زَدْ وَ گُفتْ "توْ أَزْ عَمَدْ اِينْ كَارْ رَا كَرْدِيْ! يِكْ رُوزْ، خَواهِيْ دِيدْ! توْ بَايدْ تَاوَانْ اِينْ كَارْتْ رَا بِدَهِيْ."

...

Flodhest bad om unnskyldning til Kanin: "Eg er lei meg, venen min, eg såg deg ikkje. Ver så snill å tilgje meg!" Men Kanin ville ikkje høyra, og han ropte til Flodhest: "Du gjorde det med vilje! Ein dag kjem du til å få sjå! Dette kjem til å straffa seg!"

خَرْگُوش رَفَت تَا آتَش پِيدَا كُنْد وَگُفت، ”بُرُو، وَقْتى كَه گَرْگَن  
أَز آب بِيرُون آمَد تَا عَلَف بِخُورَد، او را ِسوزان. او روِي مَنْ پَا<sup>گَذَاشت!</sup>“ آتَش پَاسْخ دَاد، ”هِيج مُشكَلِي نِيست، خَرْگُوش  
جان، دَوْسَت مَن، مَن آنِچَه را كَه تو خَواستَي أَنجَام مَيْدَهَم.“

...

Då drog Kanin for å finna Eld, og han sa:  
“Dra og brenn Flodhest når ho kjem ut av  
vatnet for å eta gras. Ho trakka på meg!”  
Eld svara: “Ikkje noko problem, Kanin,  
venen min. Eg skal gjera akkurat det du bad  
meg om.”





بعداً، گرگَن داشت دور از رودخانه َلَف می خورد که ناگَان، آتش او را فرا گِرفت. آتش زبانه کشید. شعله های آتش شروع ِ به سوزانَدِن موهای گرگَن گردند.

...

Seinare åt Flodhest gras langt frå elvebreidda då det plutseleg sa "svsj!" Eld vart til flammar. Flammane byrja å brenna håret til Flodhest.



گرگَن شُروع بِه گِريه گَرد وَبِه سَمِت آب دَوَيد. تَمامِ موهَايَش  
با آتش سوختِه بود. گرگَن بِه گِريه گَرَدَش إِدامِه داد وَگُفت،  
”موهَايَ مَن دَرَآتش سوخت! هَمِه يِ موهَايَ مَن گَنِدَه شَد!  
موهَايَ قَشْنَگَم!”

...

Flodhest byrja å gråta og sprang mot vatnet.  
Alt håret hennar brann opp i elden. Flodhest  
gret: ”Håret mitt har brunne opp i elden! Du  
brann alt håret mitt! Håret mitt er borte!  
Det vene, vakre håret mitt!”

خَرْگُوش خوشحال بود از اینکه موهای گَرگَدن سوخته بود. و تا امروز به خاطرِ ترس از آتش، گَرگَدن هیچوقت دورتر از آن رودخانه نرفته است.

...

Kanin var glad for at håret til Flodhest  
brann. Og den dag i dag, av frykt for elden,  
går ikke flodhesten langt frå vatnet.





# Barnebøker for Norge

[barneboker.no](http://barneboker.no)

چرا گرگَنْ مو نَدَاشْت

## Kvifor flodhestar ikkje har hår

Skrevet av: Basilio Gimo, David Ker

Illustret av: Carol Liddiment

Oversatt av: Marzieh Mohammadian Haghghi (fa), Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand  
(nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreført av Barnebøker for Norge ([barneboker.no](http://barneboker.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons  
[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens](#).